



49

GEOGRAPHY HSSC-I

SECTION – A (Marks 17)

Time allowed: 25 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed

Do not use lead pencils.

حداللہ ازیز ہے اس کے حبابات ای ملکہ بوسے کرنا تم مر کرے جو لے کریں کاف کر دیا جائے
گئے کی ابادت ملکی ہے ایسا خلائق استحق مسون ہے۔

لئے کی اجازت نہیں ہے لیکن پہل کا ستعل منوع ہے۔

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. ہر سوال کے سامنے دیے گئے کرکٹم کے مقابل درست اور نکل کر کریں۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: **Candidate Sign.** _____

Question	Jar	A	B	C	D	A	B	C	D
In which branch of Geography, we study the Physical art of making maps?	جغرافیہ کی کس شاخ میں نقشہ کی ساخت کا کام تھا ہے؟	Physical geography طبی جغرافیہ	Human geography انسانی جغرافیہ	Cartography کارٹوگرافی	Geomorphology جیو مورفولوژی	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zeugens are the landforms of:	زیونز کے اوصاف اور خصائص ہیں۔	Glacier گلیشیر ریجن	River ریور	Wind ہوا	Underground water زمین زندگی پال	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Marble is the type of:	مرمل کس صمبوں کی چیز ہے؟	Sedimentary rocks حربی اور چٹائیں	Igneous rocks آتشی جاشار	Metamorphic rocks حیری و تبدیل شدہ چٹائیں	Granite گرانیت	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In which ocean Benguela current is found?	برنگال کی روکس بری میں اپنے جاتی ہے؟	Pacific Ocean جنوبی اطلس	Atlantic Ocean جنوب اtlas	Indian Ocean جنوب	Arctic Ocean جنوب گرد شل	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In which period were Himalaya's mountains formed?	ہمالیہ کی دریں پہنچیں؟	Alpine الپس	Tertiary تریسری	Caledonian کلیڈنی	Hercynian ہرکسینی	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Which one of the following is an example of carbonaceous rock?	جرن شدہ میں کامیاب نیٹس چان کی حشر	Lime stone جرن شدہ	Shale ٹنل	Coke کوکل	Granite گرانیت	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In which ocean canary current is found?	جنوب اطلس کی روکس سمندر اور جنوبی اپنے جاتی ہے؟	Pacific Ocean جنوبی اطلس	Atlantic Ocean جنوب اtlas	Indian Ocean جنوب	Arctic Ocean جنوب گرد شل	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
8. Westerlies/Anti-Trade winds are:	مغربی بادیں / مکتب خواری بادیں ہیں۔	Planetary winds پیارے بادیں	Monsoon winds مریضہ بادیں	Local winds محلی بادیں	Seasonal winds سویکی بادیں	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Inselbergs are the landforms made by the action of:	لیسٹنگز کے کر کے ٹوپی سے بے ہرگز خروچاں ہیں۔	Glacier لیخ	River دریا	Wind ہوا	Underground water دریوں کی پانی	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Roches Moutonnées are the landforms made by the action:	میرے تریخیں کس کے ٹوپی سے بے ہرگز خروچاں ہیں؟	River دریا	Glacier لیخ	Wind ہوا	Underground water دریوں کی پانی	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. At which latitudes is Earth's circumference the largest?	کس عرض نطیجہ دینے کا یہ سب سے زیاد ہے؟	Equator کھداستہ	Tropic of Cancer خط سرطان	Tropic of Capricorn خط جدیدی	Arctic Circles والیخیں کا مدار	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. In which mountains, Rift valleys are formed:	ریفت والیں کہ کی پہاڑیں میں تھیں؟	Folded Mountains مغز پیڑا	Volcanic Mountains اٹھنچان پور	Block Mountains بلک نیا پور	Residual Mountains قیچی اور جدید	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Which instrument is used to measure the humidity in atmosphere?	کوئی میٹر ایسی ارجمند سطحی کے لیے کوئی ساہنہ اسیل ہوتا ہے؟	Barometer جرودم	Hygrometer ہیگرومیٹر	Thermometer حریمیٹر	Altimeter آلٹیمیٹر	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. In which ocean is the Agulhas Current found?	اگلہس سر کی حریص پیلی جاتا ہے۔	Pacific Ocean جنوبی ایالات	Atlantic Ocean جنوب ایالات	Indian Ocean جنوبی ایالات	Arctic Ocean جنوب گردشی	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. According to age, which are the oldest mountains of the World?	کلدوں پیڑا کے دنیا میں سب سے پرانے ہیں کہ کہاں ہیں؟	Caledonian mountains کلدوں پیڑا	Hercynian mountains ہرکسین پیڑا	Alpine Mountains الپین پیڑا	Volcanic Mountains اٹھنچان پیڑا	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16. In which season disintegration of rock takes place?	کس سرماں چنانوں کی گستاخات ہوتی ہے؟	Spring season سرماں چنان	Autumn season خوش ہیں	Winter season بیسم	Humid summer season موطبہ صورت میں	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. Combridges are the landform of:	کمزی خروچاں ہیں۔	River دریا	Glacier لیخ	Wind ہوا	Underground Water دریوں کی پانی	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

—1HA-124023-30231 —

ROLL NUMBER					



GEOGRAPHY HSSC-I

50

Time allowed: 2:35 Hours

Total Marks Sections B and C: 68

NOTE: Answer any fourteen parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 42)

- Q. 2 Answer any FOURTEEN parts briefly. (14 x 3 = 42)
- (i) What is the difference between Geology and Economics Geography?
 - (ii) How seasons are changed? Explain briefly.
 - (iii) Differentiate between oxidation and carbonation.
 - (iv) Around which planet, largest numbers of satellites revolve?
 - (v) What is the difference between calcareous and carbonaceous rocks?
 - (vi) Write a short note on different types of depositional plains.
 - (vii) Write a short note on volcanoes. Also mention the names of its types.
 - (viii) Write a short note on continental plateaus.
 - (ix) Write names of different types of Sand Dunes.
 - (x) Differentiate between Denudation and Erosion.
 - (xi) How is atmosphere heated? Explain briefly.
 - (xii) Write a short note on relative humidity.
 - (xiii) Explain the difference between inner and outer cores of the earth.
 - (xiv) Why are Gorges and Canyons found only in the upper course of river?
 - (xv) Write a short note on the Nimbus clouds.
 - (xvi) What are the differences between Mountain Breeze and Chinook winds?
 - (xvii) Write a short note on plutonic rocks.
 - (xviii) What are different types of Fogs?
 - (xix) Write a short note on the ocean deeps? Also mention the name of deepest place of the world.

SECTION – C (Marks 26)

- Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks. (2 x 13 = 26)
- Q. 3 Write a detailed note on the formation of Metamorphic rocks.
- Q. 4 Write in detail about currents of Indian Ocean. Also show them in two different maps of winter and summer monsoon seasons.
- Q. 5 Divide the globe into different pressure belts in relation to the planetary wind system. Also show them on map/Globe.



جغرافیہ ایج ایس ایس سی ۔ ۱

وقت: 2:35 م گھنے

گل نمبر حصہ دوم اور سوم: 68

فروض: حصہ دوم اور سوم کے سوالات علیحدہ ہے میاکی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے بوجوہ (14) ایجادہ جبکہ حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے جائز ہیں۔

حصہ دوم (گل نمبر 42)

(14x3 = 42)

مددوجہ ذیل میں سے کوئی سے بوجوہ (14) ایجادہ کے مختصر جوابات لکھیں۔

- (i) مختصر طور پر واضح کریں کہ موسم کیسے بدلتے ہیں؟
- (ii) جیلوں اور معائشی جنگلیں میں کیا فرق ہے؟
- (iv) آکیڈینٹ اور کار بونیشن میں فرق واضح کریں۔
- (vi) سیکلریٹس اور کار بونیشن میں کیا فرق ہے؟
- (viii) آئش نشاں پیاراؤں پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔ ان کی مختلف اقسام کے نام بھی لکھیں۔
- (x) ریت کے میلے کی مختلف اقسام کے نام تحریر کریں۔
- (xi) کہہ ہو اکیسے گرم ہوتے ہیں؟ مختصر وضاحت کیجیے۔
- (xiii) زمین کے قلب کے اندر ورنی اور بیرونی حصوں میں فرق واضح کریں۔
- (xv) نسب بادوں پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔
- (xvii) پلٹانی چنانوں پر نوٹ تحریر کریں۔
- (xix) سمندری گہرا بیوں پر مختصر نوٹ لکھیں۔ دنیا کے بحروں میں گہرے ترین مقام کا تذکرہ بھی کریں۔

حصہ سوم (گل نمبر 26)

(2x13 = 26)

(کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبرہ بریں۔)

مختبرہ یا تبدیل شدہ چنانوں کی مختلف اقسام کی بیوٹ پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔

بھرمندگی روؤں کے مختلف تھیڈیاں لکھیں۔ نیز موسم سرما اور موسم گرم کے میون سون میں ان روؤں کو دو مختلف انتشوں پر بھی دکھائیں۔

سیداری یا استقلال ہواں کو مد نظر رکھتے ہوئے گوب کوہاں کے باہم کے مختلف طقوں / پیوں میں تقسیم کریں۔ نیز ان طقوں کو گلوب یا نقشہ پر بھی دکھائیں۔

سوال نمبر ۳:

سوال نمبر ۴:

سوال نمبر ۵: